

آپ اپنے گھر کو آگ سے محفوظ رکھیں

اوپن ایئر برننگ



Mississauga Fire
& Emergency Services



کھلی ہوا میں آگ جلانا کیا ہے یہ
سمجھنا کیوں ضروری ہے اور ایسا
کرنے کے لیے کیا مجھے ایک سٹی
پرمت کی ضرورت ہے؟

یہ مختصر ہدایت نامہ آپ کے تمام سوالوں کے
جواب دے گا اور آپ اور آپ کے اہل خانہ کو
محفوظ رہنے میں مددگار ہوگا!

کھلی ہوا میں آگ جلانا کیا ہے؟

کھلی ہوا میں آگ جلانے کا مطلب کوئی آگ جو باہر جلائی جائے۔
اس بارے میں ہر شہر کے اپنے قاعدے اور ضوابط ہوتے ہیں
کہ اس طرح کی آگ پر قابو پانے میں کس طرح مدد کی جائے۔
مسیساؤگا میں کھلی ہوا میں آگ جلانے کی قانونی اجازت ہے - اس
سے پہلے کہ آپ کوئی چیز جلائیں سٹی آف مسیساؤگا کے اوپن
ایئر برننگ بائی-لائ 18-140 میں مختصراً بیان کردہ قاعدوں پر
عمل کرنے اور یہ جاننا یقینی بنائیں کہ آپ کو پرمت کی درخواست
دینے کی ضرورت کب ہوگی۔

کیا مجھے گیس سے جلنے والے آلات کے لیے پرمت درکار ہے؟

کسی گھر سے باہر استعمال ہونے والے آلے کے لیے جو ٹیکنیکل
اسٹینڈرڈز اینڈ سیفٹی ایکٹ، 2000 کی تکمیل کرتے ہوں اور
(پروپن اور قدرتی گیس جیسی) گیس کام میں لاتے ہوں، اونٹاریو
فائر کوڈ (Ontario Fire Code)، اونٹاریو ریگولیشن
213/07 کی روسے پرمت درکار نہیں ہے۔ اسمبلی، تنصیب اور
استعمال کے لیے ہاشندوں کو تیار کنندہ کی ہدایات پر لازماً عمل
کرنا چاہیے۔

مجھے پرمٹ کی ضرورت کب ہے؟

یہ جاننا شاید مشکل ہو سکتا ہے کہ اوپن اینڈ برننگ پرمٹ کے لیے درخواست کب دی جائے۔ یہاں اس بارے میں چند معاون اشارے دیے جا رہے ہیں کہ پرمٹ کی ضرورت کب پڑتی ہے۔

✓ پرمٹ ضروری ہے

طباحتی میں استعمال ہونے والی آگ، بیرونی آتش دان، بیرونی آلہ، بیرونی آؤٹ ڈور یا اسموک ہاؤس کو چھوڑ کر دیگر چیزوں کے لیے پرمٹ کی ضرورت ہوگی۔



✗ پرمٹ ضروری نہیں

آپ کو بیرونی آتش دان، بیرونی آلہ، بیرونی آؤٹ ڈور یا اسموک ہاؤس کے لیے پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے۔



میں پرمٹ کیسے حاصل کروں؟

کھلی ہوا میں آگ جلانے کے لیے پرمٹ 905-896-5908 پر میسیساؤگا فائر پری ونشن آفس کو فون کر کے یا fire.prevention@mississauga.ca پر ای میل کر کے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ پرمٹ حاصل کرنے کے لیے درخواست فیس ادا کرنی ہوتی ہے۔



پرمٹ کے ذریعے جلائی جانے والی آگ:

پرمٹ حاصل کر لینے کے بعد اس کی ایک نقل (کاپی) اپنے پاس رکھیں۔ آپ سورج طلوع اور غروب ہونے کے درمیان کھلی ہوا میں (دن کی روشنی کے اوقات میں) آگ جلا سکتے ہیں اگر:

- اگر اس سے کوئی پریشانی نہ ہو
- دھند (اسموک) کا الرٹ نافذ العمل نہ ہو
- آگ کی مستقل نگرانی کی جائے
- آپ کے پاس آگ بجھانے کا کوئی طریقہ ہو (مثلاً گارڈن ہوس یا آگ بجھانے والا آلہ)
- آگ کسی ڈھانچے، املاک کے قریب، شاہراہ، اور ہیڈ وائر یا دیگر جلنے کے قابل اشیاء (مثلاً درخت) سے 50 میٹرز (146 فٹ) سے زیادہ دوری پر ہو
- اگر کوئی جلنے کے قابل زمینی سرپوش (مثلاً گھاس) کم از کم پانچ میٹرز کی دوری پر ہے
- دن تیز ہوا والا نہ ہو (24 کلو میٹر فی گھنٹہ سے کم)
- اس کا علاقہ ایک مربع میٹر سے کم ہو
- اس کی اونچائی ایک میٹر سے زیادہ نہ ہو

تیار شدہ بیرونی آلات اور طبخی میں استعمال ہونے والی آگ

کسی تیار شدہ بیرونی آلے کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا مختصر حدود طبخی کے لیے سورج طلوع ہونے اور 11 بجے رات کے درمیان پرمٹ کے بغیر آگ جلائی جا سکتی ہے اگر:

- اگر اس سے کوئی پریشانی نہ ہو
- دھند کا الرٹ موثر العمل نہیں کیا گیا ہے
- ہر وقت آگ کی نگرانی قریب سے کی جاتی ہے اور پھر اسے پوری طرح بجھا دیا جاتا ہے
- آگ بجھانے کا کوئی طریقہ ہے (مثلاً آگ بجھانے والا آلہ یا گارڈن ہوس)
- یہ کسی ڈھانچے، املاک، شاہراہ، اوور ہیڈ وائر اور دیگر جانے کے قابل اشیاء (مثلاً درخت) سے کم از کم پانچ میٹر کے فاصلے پر واقع ہ



تیار شدہ بیرونی آلات کے لیے لازم ہے کہ:

- انہیں نہ جانے کے قابل سطح (مثلاً پتھر، کنکریٹ) پر رکھا جائے جو یونٹ کی اونچائی کے مساوی فاصلے پر یونٹ سے آگے نکلا ہو

طبخی میں استعمال ہونے والی آگ کے لیے لازم ہے کہ:

- وہ مختصر محدود آگ پر مشتمل ہو
- اس کا استعمال گرل، بار بیک یا اسپیت پر کھانا پکانے کے لیے کیا جائے
- پکانے جا رہے کھانے کی قسم اور مقدار سے متناسب ہو
- تیز ہوا والے موسم میں نہ واقع ہو (24 کلو میٹر/گھنٹہ سے زیادہ)

جرمانے اور پابندیاں

- فائر ڈیپارٹمنٹ آپ کی آگ بجھا سکتا ہے اگر:
- وہ سٹی اوپن ایئر برننگ بائی-لائے ضوابط کی تعمیل نہیں کرتی
- اسے پریشانی کا سبب سمجھا جائے
- آگ بجھانے والے عملے کے معانے کے بعد یہ طے پائے کہ وہ حفاظت کے لیے خطرہ ہے

آپ اپنے گھر کو آگ سے محفوظ رکھیں

اگر آپ سٹی اوپن اینر برننگ بائی- لاء ضوابط کی تعمیل نہیں کرتے ہیں یا اس کی کسی شرط کی تعمیل نہیں کرتے تو پرمٹ واپس لیے جا سکتے ہیں۔

اگر آپ کسی ضابطے کی خلاف ورزی کے قصور وار پائے جاتے ہیں تو آپ پر \$5,000 تک کا جرمانہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو کھلی ہوا میں آگ جلانے کے لیے اونٹاریو فائر کوڈ کی خلاف ورزی کا قصور وار پایا جاتا ہے تو آپ پر \$50,000 تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔

سوالات؟ ہم سے رابطہ کریں

مسیساوگا فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز
فائر پری وینشن ڈویژن (Fire Prevention)
Division
905-896-5908
mississauga.ca
fire.prevention@mississauga.ca



Mississauga Fire
& Emergency Services